



شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے:
 یہ کس نے پیدا کیا؟ وہ کس نے پیدا کیا؟ حتیٰ کہ سوال کرنے
 لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ لہذا جب نوبت یہاں تک
 پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا چاہیے اور اس
 شیطانی خیال کو ترک کر دینا چاہیے"

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: "شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے: یہ کس نے پیدا کیا؟ وہ کس نے پیدا کیا؟ حتیٰ کہ سوال کرنے لگتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ لہذا جب نوبت یہاں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا چاہیے اور اس شیطانی خیال کو ترک کر دینا چاہیے"
 [صحیح] [متفق علیہ]

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان سوالات کا کارگر علاج بیان فرمایا ہے جن کے ذریعے شیطان مؤمن کو وسوسے میں مبتلا کرتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا؟ وہ کس نے پیدا کیا؟ آسمان کس نے بنایا؟ زمین کس نے تخلیق کی؟ ایسے میں مؤمن اپنے دین، فطرت اور عقل کی روشنی میں ان وسوسوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن شیطان انہی وسوسوں پر بس نہیں کرتا، بلکہ ایک کے بعد دوسرا سوال لاتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سوال تک پہنچ جاتا ہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا؟ ایسی صورت میں مؤمن کو چاہیے کہ ان وسوسوں کا مقابلہ تین چیزوں کے ذریعے کرے: اللہ پر ایمان کے ذریعے، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر کے اور وسوسوں کے پیچھے بھاگنے سے اپنے آپ کو روک کر۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/65013>



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

